

# Hos

## Chapter 12

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אֶפְרַיִם	רַעֲיָה	רוּחַ	וְרַחֲמָיִם	קָדִים	כָּל־	הַיּוֹם	כְּזָב	וְשָׂדֵה	יְרֵכָה	וּבְרִית
	افرائیم	چراتا-بے	ہوا	اور-پیچھا-کرتا-بے	پوری-ہوا-کو	سارا-	دن	جھوٹ	اور-تباہی	بڑھاتا-بے	اور-عہد
	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H6921</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3577</a>	<a href="#">H7701</a>	<a href="#">H1285</a>		
	עַם־	אֲשׁוּר	יְכָתוּב	וְשִׁמּוֹן	לְמַצְרַיִם	יּוֹבֵל:					
	کے-ساتھ-	اسور	وہ-باندھتے-ہیں	اور-تیل	مصر-کو	لے-جایا-جاتا-بے					
	<a href="#">H0804</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H2986</a>						

عہد سے اسور بے۔ ربا جا ہوتا اضافہ میں ظلم اور جھوٹ کے اُس بے۔ ربتا بھاگتا پیچھے کے اُو مشرقی وہ دن پورا ہے، ربا کر کوشش کی چرنے یوا اسرائیل بے۔ دیتا بھیج تیل کا زیتون بھی کو مصر وہ ساتھ ساتھ کے باندھنے

2	וְרִיב	לְיִהוּוָה	עַם־	יְהוּדָה	וּלְפָקֵד	עַל־	יַעֲקֹב	כְּדָרְכָיו			
	اور-مقدمہ	یہوواہ-کا	کے-ساتھ-	اور-سزا-دینے-کے-لیے	پر-	یعقوب	اُس-کے-راستوں-کے-مطابق				
	<a href="#">H7379</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3063</a>			<a href="#">H3290</a>	<a href="#">H1870</a>				
	אֲסִי	כְּמַעֲלָיו	יִשָּׁיב	לֹ:							
	اُس-کے-کاموں-کے-مطابق	وہ-لوٹائے-گا	اُسے								
	<a href="#">H4611</a>	<a href="#">H7725</a>									

گا۔ دے اجر مناسب کا اعمال کے اُس سزا، کی چلن چال کے اُس کو یعقوب وہ گا۔ لڑے بھی سے یہوواہ میں عدالت رب

3	בִּיטוֹן	עֲקָב	אֶת־	אֶת־	וּבְאֹזְנוֹ	שָׂרָה	אֶת־	אֱלֹהִים:			
	بیٹ-میں	اُس-نے-ایڑی-پکڑی	کی	اپنے-بھائی-کی	اور-اپنی-طاقت-سے	لڑا	کے-ساتھ-	خدا			
	<a href="#">H0990</a>	<a href="#">H6117</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H0202</a>	<a href="#">H8280</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0430</a>			

لڑا سے اللہ تو ہوا بالغ جب دیا۔ دھوکا اُسے کر پکڑ ایڑی کی بھائی اپنے نے اُس بی میں بیٹ کے ماں کیونکہ

4	וְיִשָּׂר	אֶל־	מְלֶאכֶיךָ	וַיִּזְכֹּל	בְּכַהֵן	וַיִּתְחַנֵּן־	לֹ:	בֵּית־אֵל	וּמַצְאֵנוּ	וְשָׂם	
	اور-لڑا	کے-ساتھ-	فرشتے	اور-غالب-آیا	رویا	اور-منت-کی-	اُس-سے	بیت-ایل-میں	وہ-اُسے-پائے-گا	اور-وباں	
	<a href="#">H7786</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4397</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H1058</a>			<a href="#">H1008</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H8033</a>	
		וְדָבָר	עֲמָנוּ:								
		وہ-بات-کرے-گا	ہمارے-ساتھ								
		<a href="#">H1696</a>									

اور پایا، میں ایل بیت کو اللہ نے یعقوب میں بعد کر۔ رحم پر مجھ کہ کی التجا سے اُس روتے روتے نے اُس پھر آیا۔ غالب پر اُس لڑتے لڑتے سے فرشتے بلکہ ہوا۔ کلام ہم سے اُس خدا ویاں

5	וַיְהוּדָה	אֱלֹהֵי	הַלְּבָבוֹת	יְהוּדָה	זְכָרוֹ:						
	اور-یہوواہ	خدا	لشکروں-کا	یہوواہ	اُس-کی-یادگار-بے						
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2143</a>							

فرمایا، نے اُس بے، بی رب نام کا جس اور بے خدا کا لشکروں جو رب

6	וְאֶתָּה	בְּאֶלְהֵיךָ	תָּשׁוּב	חֶסֶד	וּמִשְׁפָּט	שָׁמֵר	וּקְוָה	אֶל־	אֱלֹהֵיךָ		
	اور-تُو	اپنے-خدا-کے-ذریعے	لوٹ	رحمت	اور-عدالت	قائم-رکھ	اور-انتظار-کر	کی-طرف-	اپنے-خدا-کا		
		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0430</a>				

تְּמִיד:  
بمیشہ  
[H8548](#)

آ۔ نہ باز سے رکھنے امید پر خدا اپنے کبھی رکھا! قائم انصاف اور رحم کر آ واپس پاس کے خدا ۱۱ اپنے

7	כְּזַעַן	כְּדָרוֹ	מֵאֲזִי	מִרְמָה	לְעֵשֶׂק	אֶהָב:
	کنعان	اُس-کے-باتھ-میں	ترازوبائے-ہیں	دھوکے-کے	ظلم-کرنا	پسند-کرتا-ہے
	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3976</a>	<a href="#">H4820</a>	<a href="#">H6231</a>	<a href="#">H0157</a>	

ہے۔ شوق بڑا کا اُٹھانے فائدہ ناجائز سے لوگوں جسے اور بے ترازو غلط میں باتھ کے جس بے تاجر اسرائیل

8	וְיִאמְרוּ	אֶפְרָיִם	אֶדָּ	עֲשֵׂרְתִי	מִצְאָתִי	אֶזֶן	לִי	כָל-
	اور-افرائیم-نے-کہا	افرائیم	یقیناً	میں-دولتمند-ہو-گیا-ہوں	میں-نے-پایا-ہے	دولت	اپنے-لیے	ساری-
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H0389</a>	<a href="#">H6238</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0202</a>	<a href="#">H3605</a>	
	וְיִשְׂתִּי	לֹא	יִמְצְאוּ-	לִי	עֲזֹן	אֶשֶׁר-	חֲטָא:	
	میری-محتئیں	نہیں	پائیں-گے-	میرے-لیے	بدکاری	جو-	گناہ-ہے	
	<a href="#">H3018</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H2399</a>			

قصور کوئی میں کرنے حاصل ملکیت تمام یہ سے مجھ کہ گا سکے کر نہیں ثابت کوئی ہے۔ پائی دولت کی کثرت نے میں ہوں، گیا ہو امیر ۱۱ میں ہے، کہتا وہ ہے۔ ۱۱ ہوا سرزد گناہ یا

9	וְאֶזְכְּרִי	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	מֵאֶרֶץ	מִצְרַיִם	עַד	אֲשִׁיבֶךָ	בְּאֶהְלִים	כִּימִי	מוֹעֵד:
	اور-میں	یہوواہ	تیرا-خدا	زمین-سے	مصر-کی	ابھی	میں-تجھے-بساؤں-گا	خیموں-میں	دنوں-کی-طرح	عید-کے
	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H4150</a>

ہو یوں گا۔ دوں بسنے میں خیموں دوبارہ تجھے میں گا۔ کروں نہیں نظرانداز یہ میں ہوں خدا تیرا تک آج وقت نکالتے تجھے سے مصر جو رب میں، لیکن تھے۔ بوتے جمع میں ریگستان لئے کے کرنے پرستش میری اسرائیلی جب ہوا میں دنوں پہلے اُن طرح جس گا

10	וְדִבַּרְתִּי	עַל-	הַנְּבִיאִים	וְאֶזְכְּרִי	חַזֹּן	הַרְבִּיתִי	וַיְבָרֵךְ	הַנְּבִיאִים
	اور-میں-نے-کلام-کیا	پر-	نبیوں	اور-میں-نے	رویاں	بہت-دیں	اور-باتھ-سے	نبیوں-کے
	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H2377</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H5030</a>	

اِذْ مَدَدَ:  
میں-نے-تمثیلیں-دیں  
[H1819](#)

سنائیں۔ ۱۱ تمثیلیں تمہیں ذریعے کے اُن اور دکھائیں روایں متعدد انہیں نے میں ہوا، کلام ہم سے تم معرفت کی نبیوں بار بار میں

11	אִם-	גִּלְעָד	אֶזֶן	אֶדָּ-	שׂוֹא	הִיוּ	בְּגִלְגָּל	שְׁוָרִים	זִבְחֹו	נֶם
	اگر-	جلعاد	بدکاری-ہے	یقیناً-	باطل	وہ-ہو-گئے	جلجال-میں	بیلوں-کی	قربانی-کی	بلکہ
	<a href="#">H1568</a>	<a href="#">H0205</a>	<a href="#">H0389</a>	<a href="#">H7723</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1537</a>	<a href="#">H7794</a>	<a href="#">H2076</a>	<a href="#">H1571</a>	
	מִזְבְּחוֹתָם	עַל	כְּנָלִים	תְּלִמֵי	שָׂדֵי:					
	اُن-کی-قربان-گاہیں	پر	ڈھیروں-کی-طرح	کھیتوں-کی-نالیوں	میرے-کھیت					
	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H1530</a>	<a href="#">H8525</a>							

وہ گی۔ جائیں بن ڈھیر کے ملے گاہیں قربان کی اُن لئے اس ہیں، کئے قربان ساند نے لوگوں میں جلجال ہیں! ہی ناکارہ لوگ کے اُس ہے؟ بے دین جلعاد کیا گی۔ بنیں جیسی ڈھیر کے پتھر لگے پر کنارے کے کھیت شدہ تیار لئے کے ہونے بیج

12	וַיְבָרַח	יַעֲקֹב	שָׂדֵה	אֶרֶם	וַיַּעֲבֹד	יִשְׂרָאֵל	בְּאֶשְׁחָ	וַיְבָאֲשָׁה
	اور-یعقوب-بھاگا	یعقوب	میدان-میں	ارام-کے	اور-اسرائیل-نے-خدمت-کی	اسرائیل	اور-عورت-کے-لیے	اور-عورت-کے-لیے
	<a href="#">H1272</a>	<a href="#">H3290</a>	<a href="#">H0758</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0802</a>	

שָׂמֵר:  
نگہبانی-کی  
[H8104](#)

کی۔ بانی گلہ کی بھیڑ بکریوں نے اُس باعث کے عورت گیا، بن ملازم لئے کے ملنے بیوی وہ وہاں پڑی۔ لینی پناہ میں آرام ملک کر بھاگ کو یعقوب

13	וּבְנֵי־אֵל	הַעֲלֶה	יְהוָה	אֶת־	יִשְׂרָאֵל	מִמִּצְרַיִם	וּבְנֵי־אֵל	נִשְׁמָר:
	اور-نبی-کے-ذریعے	نکال-لایا	یہوواہ-نے	کو	اسرائیل-کو	مصر-سے	اور-نبی-کے-ذریعے	نگہبانی-کی-گئی
	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H8104</a>

کی۔بانی گلہ کی اُس ذریعے کے نبی اور لایا نکال سے مصر کو اسرائیل معرفت کی نبی رب میں بعد لیکن

14	הַכְּעִיס	אֶפְרַיִם	תְּמָרֹתֶיךָ	וְדָמֶיךָ	עָלְיוֹ	יָפוּשׁ	וְחֶרְפָּתוֹ	יָשִׁיב	לְאִ
	غضبناک-کیا	افرائیم-نے	تلخیوں-سے	اور-اُس-کا-خون	اُس-پر	رہ-جائے-گا	اور-اُس-کی-رسوائی	لوٹائے-گا	اُسے
	<a href="#">H3707</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H8563</a>	<a href="#">H1818</a>		<a href="#">H5203</a>	<a href="#">H2781</a>	<a href="#">H7725</a>	

اُدنیو:  
اُس-کا-خداوند  
[H0136](#)

سزا مناسب انہیں وہ اب اور ہے، کی توہین کی آقا اپنے نے انہوں گا۔ پڑے بھگتنا اجر کا غارت و قتل کی ان انہیں اب دلایا۔ طیش بڑا اُسے نے اسرائیل توہی  
گا۔دے